

مسیلس اشاعت کے 84 سال

@nawaiwaqt_ editor@nawaiwaqt.com.pk

nawaiwaqt.com.pk fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ نوائے وقت

بانی تنظیمی مہتمم
ایڈیٹر ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ
معاون تنظیمی مہتمم

لاہور، کراچی، راولپنڈی / اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور گواڈریس کے وقت شائع ہوتا ہے

MONDAY 7 OCTOBER 2024

جلد 3، ورق 1، نمبر 1446، 7 اکتوبر 2024، سونچ 2081 ب

صفحہ 20 | قیمت 30 روپے | شمارہ 348 MC-24

021-32293121-6 44

پاپولر اسلامک مضاربہ

اطلاع عام سالانہ جائزہ اجلاس

پذیرے فوش مطلق کیا جاتا ہے کہ پاپولر اسلامک مضاربہ کے حقیقت ہولڈرز کا (گیارہواں) سالانہ جائزہ اجلاس 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 903-901 نوٹس منزل، چیمپل بلازہ، حضرت مولانا رفیعی روڈ، آئی آئی چنڈر گھر روڈ، کراچی بروز ہی 28 اکتوبر 2024 بوقت صبح 10:15 بجے منعقد ہوگا۔

107 اکتوبر 2024
کراچی

نوٹس:

۱۔ حقیقت فرانسفر ٹیس:

مضاربہ کا حقیقت فرانسفر ہنڈ مورچہ 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 (شمول دونوں دن) تک بند رہے گا اور درج بالا دونوں دن کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ سالانہ اجلاس میں شرکت کے سلسلے میں ہارسٹیکرز، ہارسٹی ڈی پی پاکستان، 99، بلاک بی، بین شارع فیصل، کراچی کو ممبر 19 اکتوبر 2024 کو فوری اوقات ختم ہونے تک موصول ہونے فرانسفر بروقت اور سالانہ جائزہ اجلاس میں شرکت کے اہل تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ منافع مہتمم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی:

ڈیو یڈ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی رقم ٹیکس آرڈیننس کی متعلقہ شق کے مطابق فائزر اور نوٹن فائزر سے ملنے ہوگی جائے گی۔

۳۔ سالانہ گورنروں کی دستاویزی:

پاپولر اسلامک مضاربہ کے سالانہ گورنروں تکس مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

کیو آر کوڈ

<https://popularislamicmodaraba.com/wp-content/uploads/2024/10/PIM-June-24.pdf>

۴۔ منافع مہتمم کی برقی طریقے سے ادائیگی (لاڈی):


کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 232 کے مطابق لادھی کیلئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ حقیقت ہولڈرز کو نقد منافع مہتمم کی ادائیگی برقی طریقے سے کرے۔ اس لئے پاپولر اسلامک مضاربہ کے تمام حقیقت ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مضاربہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈیو یڈ میٹڈ ہنڈ فارم میں اپنے متعلقہ بینک کو اختیار منافع مہتمم (یعنی ڈیو یڈ میٹڈ ہنڈ) فراہم کرے۔ وہ سرٹیفیکٹ ہولڈرز جو بی ڈی ایس کے تحت حقیقت ہولڈنگ برقرار رکھے ہونے ہیں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بینک میٹڈ ڈیٹا انٹاریشن براہ راست متعلقہ سرٹیکس ڈی پی ایس انوسٹری کاؤنٹ کو جمع کراویں۔ بینک اکاؤنٹ کی عدم دستیابی یا ناکمل معلومات کی صورت میں مضاربہ یا لادھی حقیقت ہولڈرز کے منافع مہتمم کی ادائیگی روک لی جائے گی۔

۵۔ فونیکل سرٹیفیکٹس کا سی ڈی ایس میں تبادلہ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 232 کے مطابق لادھی کیلئے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ کے آٹاڈ (تاریخ 30 جون 2017ء) کے پارسلوں کے اندر تمام فونیکل سرٹیفیکٹس کو برقی (ایلیکٹرانک) میں تبدیل کر لیں۔ لہذا اپنے حقیقت ہولڈرز جن کے پاس مضاربہ کے فونیکل سرٹیفیکٹس موجود ہیں جلد از جلد انہیں سی ڈی ایس میں تبدیل کراویں۔ اس سے حقیقت ہولڈرز کو بہت سے فوائد حاصل ہونگے جیسا کہ سرٹیفیکٹس کی محفوظ نگہداشت، ڈیٹا کیلکولیشن کے اجراء کیلئے درکار تھنوں سے گریز اور ہنڈزوں پر اوپن مارکیٹ میں خرید و فروخت کیلئے آسانی سے دستیابی۔

۶۔ غیر رجسٹرڈ منافع مہتمم:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 232 کے مطابق مضاربہ کی جانب سے اعلان کردہ کوئی بھی منافع مہتمم، جو کہ تاریخ اور ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر رجسٹرڈ رہتا ہے اسے مضاربہ پر نوے دن کا فوش دے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں آیا تو مضاربہ یا لادھی تمام رجسٹرڈ رجسٹریٹرز منافع مہتمم وفاقی حکومت کو ادا کرے گا۔



The Nation

Rabi ul Thani 03, 1446
MONDAY,
October 07, 2024

TheNation.pk www.nation.com.pk facebook.com/thenationdaily @the_nation



Popular Islamic Modaraba

An Islamic Financial Institution

Managed by Popular Islamic Modaraba Management Company (Pvt.) Ltd

NOTICE OF ANNUAL REVIEW MEETING

Notice is hereby given to the certificate holders that Eleventh (11th) Annual Review Meeting of Popular Islamic Modaraba will be held on Monday October 28, 2024 at 10:15 a.m. at 901-904, 9th Floor, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, Off. I.I.Chundrigar Road, Karachi for review the performance of the Modaraba for the year ended June 30, 2024.

By order of the Board

--SD--

Aisha Mughal
(Company Secretary)

Karachi : October 07, 2024

Notes:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:**

The Modaraba Certificates Transfer Book will remain closed from October 21, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive) to determine the names of Certificate Holders eligible to attend the Annual Review Meeting. The transfers received in order at the office of the Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi by the close of business hours on October 19, 2024 will be considered the eligibility to attend the Annual Review Meeting.

2. **WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND:**

Withholding tax on dividend will be deducted in pursuant to the relevant Section of the Income Tax Ordinance, 2001, from payment of dividend to the Filer and Non-Filers, accordingly.

3. **AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON MODARABA'S WEBSITE:**

The Annual Audited Financial Statements alongwith Reports of the Modaraba can be accessed through the following weblink and QR enabled code:

Weblink	QR Code
https://popularislamicmodaraba.com/wp-content/uploads/2024/10/PIM-June-24.pdf	

4. **PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE:**

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its Certificate Holders only through electronic mode directly into Bank account designated by the entitled Certificate Holders. Therefore, all the Certificate Holders of Popular Islamic Modaraba are hereby advised to provide dividend mandate of their respective Banks in the Dividend Mandate Form available on Modaraba's website. Certificate Holders maintaining Certificate holding under CDS are advised to submit their Bank account mandate information directly to the relevant participant / CDC Investor Account Service.

In case of non-compliance, the Modaraba will be constrained to withhold payment of dividend to such Certificate Holder.

5. **CONVERSION OF PHYSICAL CERTIFICATES INTO CDS:**

In compliance with the requirements of Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace physical certificates with book-entry form in a manner as many be specified and from the date notified by the SECP, with a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, that is May 30, 2017.

Certificate Holders having physical certificates are requested to convert their certificates from physical form into book entry form as early as possible. It would facilitate the certificate holders in many ways including safe custody of certificates, no loss of certificates, avoidance of formalities required for issuance of duplicate certificates and readily available for sale and purchase in open market at better rates.

6. **UNCLAIMED DIVIDENDS:**

In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividend declared by the Modaraba, which remain unclaimed for a period of three years from the date it is due and payable, the Modaraba shall give ninety days notices to the Certificate Holders to file claim, if no claim is made before the Modaraba by the Certificate Holders, the Modaraba shall proceed to deposit the unclaimed Dividends with the Federal Government in compliance with the Section 244 of the Companies Act, 2017. In case no claim is received with in the given period from the aforesaid Notice, the Modaraba shall proceed to deposit the unclaimed amount with the Federal Government pursuant to provision of sub-section (2) of Section 244 of the Companies Act, 2017.